

براک ول کا شہر

(City of Brockville)

www.Brockville.com



براک ول اپنے موزوں مقام، دلاویز خوبصورتی، بہترین ریستورنٹ اور مہم جو تفریحی سہولیات کی وجہ سے بہت پہلے سے مشہور ہے۔ سینٹ لارنس دریا کے حیرت انگیز نظارے اور 1000 جزیرے کے زینہ در پر ہونے کی وجہ سے، براک ول کینیڈا کا واقعی سب سے حسین منظر پیش کرتا ہے۔ کیا آپ یہ بھی جانتے تھے کہ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے براک ول دنیا بھر میں متعین محفوظ علاقہ منتخب ہوا؟ علاقے کے سروے کے نتائج سے ظاہر ہوا کہ شہر کے 97 فیصد رہائشیوں نے یہاں رہنے کو محفوظ تصور کیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ 99 فیصد اپنے گھر میں محفوظ محسوس کرتے تھے، 98 فیصد دن کے وقت بیرون خانہ اور 85 فیصد رات کے وقت شہر میں کہیں پر بھی چہل قدمی کرتے ہوئے گھرانوں اور ریٹائر لوگوں کے لیے براک ول اپنی مرضی کی رہنے کی جگہ کے طور پر نظر ثانی کے لیے یہ ایک بڑی پرکشش وجہ ہے۔

کاروبار کے لیے، اس اصلی جغرافیائی مقام نے اس شہر کو تمام سہولیات تک بہترین رسائی فراہم کی ہے۔ یہ شہر اوٹاوا، مانتیال اور ٹورانٹو کے وسط میں واقع ہے اور شمالی نیویارک کی ریاست تک جانے والے دو بین الاقوامی پلوں سے متوں کے فاصلے پر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سہل اور سستا مقام ہے جو چھوٹے مرکز میں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ سینٹ لارنس / عظیم جھیلوں کے علاقے کے درمیان اور دنیا کے سب سے بڑے اندرون ملک آبی راستوں میں سے ایک کے نزدیک واقع ہونے کی وجہ سے، براک ول سیاحوں اور مقامی لوگوں کی بڑی بین الاقوامی اقتصادی بازار اور ساتھ ساتھ دلچسپ سرگرمیوں تک کاروباری رسائی پیش کرتا ہے۔

لیڈز اور گرین ول میں خوش آمدید! یہاں آنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ یہ خطہ 13 میونسپلٹیوں کا گہوارہ ہے، جس میں ہر ایک کی اپنی منفرد دلکشی، تاریخ اور معاشی پہلو ہے۔ آپ کو خطے اور میونسپلٹیوں سے متعارف کروانے کے لیے ہم نے ہر ایک کا آپ کی اپنی زبان میں تحریر شدہ خاکہ تیار کیا ہے۔



دب آ لک (Stats Canada Census 2016) 21,854
جنوری کا اوسط درجہ حرارت -8°C (27°F)
جولائی کا اوسط درجہ حرارت 26°C (70°F)
عام سالانہ رسوب سازی 44 inches, بارش 6.7 inches
اوسط گھریلو آمدن \$ 84,400
اوسط شرح بے روزگاری % 5-6
ہائی اسکول تک کے تعلیم یافتہ بالغان 5,700
کالج یا یونیورسٹی ڈپلومہ والے بالغان 8,890
دو کمروں کے اپارٹمنٹ کا اوسط ماہانہ کرایے کا خرچہ \$ 883
اوسط 3 بیڈروم علیحدہ بنگلی \$ 251,217

مزید معلومات

1 King Street West, Brockville, Ontario K6V 7A5 Canada
613-342-8772 / molanl@brockville.com

Rob Nolan | معاشی ترقی کا منتظم |
براک ول کا شہر